



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

April 7, 2023

SECP registers 2,596 companies in March 2023

ISLAMABAD, April 7: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) registered 2,595 new companies in March 2023. This shows an increase of 10% as compared to corresponding period of last year. The total number of registered companies now stands at 190,161. Total capitalization (paid-up-capital) with regard to newly incorporated companies for the current month stood at Rs. 1.8 billion.

About 58 percent companies were registered as private limited companies, while 39 percent were registered as single member companies. About 03 percent were registered as public unlisted companies, not for profit associations and limited liability partnerships (LLP). Almost 99.69 percent companies were registered online. 159 foreign users were registered from overseas.

The information technology sector took the lead with incorporation of with 397 Companies, real estate development & construction 385 each, trading with 339, services with 282, education with 121, tourism with 106, food & beverages with 96, ecommerce 74, marketing & advertisement with 72, textile with 62, corporate agricultural farming 51, engineering with 49, mining & quarrying with 48, healthcare with 44, pharmaceutical 39, power generation with 37, cosmetics and toiletries and chemical with 34 each, transport with 33, cables and electrical goods and broadcasting & telecasting with 26 each, communications with 25, fuel & energy with 24, paper & board with 20, auto & allied with 19, lodging with 18, arts and culture with 13 and 122 companies were registered in other sectors.

As a result of integration of SECP with FBR and various provincial departments, 2,496 companies were registered with FBR for generation of NTN, 71 companies with EOBI, 62 companies with PESSI/SESSI and 51 companies with excise and taxation department.

Foreign investment has been reported in 89 new companies, having foreign investors from Afghanistan, China, Denmark, Egypt, Germany, Indonesia, Korea South, Malaysia, Maldives, Netherlands, Nigeria, Norway, Philippines, Portugal, Saudi Arabia, South Africa, Tajikistan, Turkey, UAE, UK and USA. Major chunk of investment was received from China with 47 companies, Nigeria with 05 companies, Germany and Philippines with 04 each, Malaysia, Saudi Arabia, UK and USA with 3 each, Afghanistan, Egypt and South Korea with 2 each and from other countries in 11 companies.

The SECP has also a dedicated WhatsApp facility for instant resolution of the queries pertaining to name availability and incorporation process and during this month, around 1,254 queries were responded with 95% satisfaction rate.

مارچ میں 2,596 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئیں: ایس ای سی پی

اسلام آباد (7 اپریل) سیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے مارچ میں 2,596 نئی کمپنیاں رجسٹر کیں، جو پچھلے سال مارچ کے مقابلے میں 10 فیصد زیادہ ہیں۔ نئی رجسٹرڈ کمپنیوں کے بعد کل رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 190,161 (ایک لاکھ نوے ہزار ایک سو اکسٹھ) ہو گئی ہے۔ نئی رجسٹر ہونے والی کمپنیوں کا کل ادا شدہ سرمایہ 1 ارب 8 کروڑ روپے ہے۔

مارچ میں تشکیل پانے والی 89 کمپنیوں میں افغانستان، چین، ڈنمارک، مصر، جرمنی، انڈونیشیا، کوریا جنوبی، ملائیشیا، مالدیپ، نیدرلینڈ، نائیجیریا، ناروے، فلپائن، پرگال، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، تاجکستان، ترکی، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے ڈائریکٹروں نے سرمایہ کاری کی۔ اس سرمایہ کاری کا بڑا حصہ نائیجیریا، جرمنی، فلپائن، ملائیشیا، سعودی عرب، افغانستان، مصر، جنوبی کوریا، برطانیہ اور امریکہ سے موصول ہوا۔

اس ماہ 99 فیصد کمپنیاں آن لائن رجسٹر ہوئیں۔ تقریباً 58 فیصد کمپنیاں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کے طور پر رجسٹر ہوئیں، جبکہ 39 فیصد سنگل ممبر کمپنیوں کے طور پر اور 3 فیصد کمپنیاں لمیٹڈ لائیسیلیٹی پارٹنرشپ، نان پرافٹ تنظیموں، اور نان لسٹڈ پبلک کمپنیوں کے طور پر رجسٹر ہوئیں۔ اس ماہ میں سب سے زیادہ رجسٹریشنز انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہوئیں جہاں 397 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئیں۔ اس کے بعد ریل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اور کنسٹرکشن، دونوں سیکٹرز میں 385 کمپنیاں رجسٹر ہوئیں۔ ٹریڈنگ میں 339، اور سروسز میں 282 کمپنیاں رجسٹر ہوئیں۔ ایس ای سی پی کا ای سروسز سسٹم ایف بی آر، صوبائی ریونیو کے محکموں کے ساتھ انٹی گریٹڈ ہے، جس کے نتیجے میں دسمبر میں بیک وقت ایس ای سی پی پورٹل انٹرفیس کے ذریعے 2,496 کمپنیاں ہمہ وقت ایف بی آر کے ساتھ، 71 کمپنیاں ای او بی آئی کے ساتھ، 62 کمپنیاں PESSI/SESSI کے ساتھ اور 51 کمپنیاں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ رجسٹر ہوئیں۔

ایس ای سی پی کمپنیز کے نام کی رجسٹریشن اور دستیابی، اور کارپوریشن کے عمل سے متعلق دیگر سوالات کے فوری حل کے لیے ایک وقف واٹس ایپ سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ فروری کے مہینے میں اس سروس کے ذریعے تقریباً 1,254 سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔